



قسم دعوة
وتوعية الجاليات

نجاة من النار جهنم سے نجات

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «جو شخص ظہر (کے فرضوں) سے پہلے چار رکعتوں کی اور ظہر کے بعد چار رکعتوں کی حفاظت کرے گا (انہیں ہمیشہ پڑھے گا)، تو وہ جہنم پر حرام کر دیا جائے گا»۔
سنت یہ ہے کہ دور کعت پڑھ کر سلام پھیر لے، پھر دور کعت پڑھے اور سلام پھیرے۔

فرض سے پہلے پڑھی جانے والی سنت کا وقت اذان ظہر سے فرض نماز کی اقامت تک ہے۔

اور فرض کے بعد پڑھی جانے والی سنت کا وقت ظہر کی فرض نماز کے بعد سے اذان عصر تک ہے۔